

## Secondary Arabic (235)

### سبق نمبر 7: حرف: اقسام اور مثالیں

### یونٹ: 1

زندگی کی عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں	زبان کی مہارتیں				سبق کا نام	سبق نمبر
	اصناف/قواعد/صنائع بدائع/اسلوب	لکھنا	پڑھنا	سننا/بولنا	حرف: اقسام اور مثالیں	7
حرف کی اقسام کے تمام صیغوں کو جاننا اور ان کا استعمال	<ul style="list-style-type: none"> <li>حروف کو جملوں میں استعمال</li> <li>حروف کے قاعدے کو سمجھنا</li> </ul>	حروف سے جملے بنانا	حروف سے بننے والے جملوں کو پڑھنا	حروف کا تلفظ اور ان کا جملوں میں استعمال		

### سبق کا خلاصہ:

- حرف کلمہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔
- حروف جر، اِنّ و اخواتها، حروف عطف، حروف الاستفہام اور حروف شرط حرف کی قسمیں ہیں۔
- حروف جر اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں یہ فعل پر ہرگز نہیں آئے۔ جیسے: مِنْ النَّبِيِّ (گھر سے) میں 'مِنْ' حرف جر ہے یہ ستر ہیں۔
- اِنّ و اخواتها کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر آتے ہیں تو اسم (مبتدا) کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے: اِنّ زیداً قائمٌ۔ یہاں زیداً اسم ہے جو اِنّ کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے۔
- حروف عطف ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ حرف عطف سے پہلے آنے والے لفظ کو معطوف علیہ اور اس کے بعد والے کو معطوف کہتے ہیں۔ جیسے: ذَهَبَ حَامِدٌ وَخَالِدٌ حُرُوفَ عَطْفٍ كُلِّ دَسٍ هُنَّ۔
- حروف استفہام وہ حروف ہیں جس کا استعمال کسی چیز یا بات کی دریافت کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے: كَيْفَ حَالُكَ؟ (آپ کا حال کیسا ہے/آپ کیسے ہیں؟) مَنْ هُوَ؟ (وہ کون ہے) وغیرہ۔
- حروف شرط ایسے حروف ہیں جو دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے: اِن تَقْرَأْ تُنْجِحْ فِي الْاِمْتِحَانِ (اگر تم پڑھو گے تو امتحان میں کامیاب ہو گے) حروف شرط کا ذکر سبق میں آیا ہے۔

### خاص باتیں:

- حروف پانچ قسم کے ہوتے ہیں۔
- ان میں سب سے زیادہ مستعمل حروف حروف جر ہیں۔
- اِنّ و اخواتها کو حروف المشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔

## سمجھنے کی بات:

- سبق میں مذکورہ حروف ایسے بھی ہیں بہت کم استعمال میں آتے ہیں۔
- حروف شرط دو جملوں مناو پر آتے ہیں۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں جملہ شرطیہ دو جملوں سے مل کر بنتا ہے۔

## غور کرنے کی باتیں:

- حروف جر صرف اسم اور ضمیر کے پہلے آتے ہیں کبھی کبھی دو حرف جر بھی ایک ساتھ آتے ہیں۔
- عدا اور خلا حروف جار کے علاوہ افعال بھی ہیں۔

## **اپنی جانچ آپ کیجیے:**

### 1- متن پر مبنی سوال:

- صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:  
(الف) حروف پانچ اقسام کے ہوتے ہیں  
(ب) حروف جر پندرہ ہیں  
(ج) کیفما اور حتی حروف عطف ہیں  
(د) حروف مشبہ بالفعل کی تعداد سات ہے

### 2- مختصر ترین جواب والا سوال:

حروف عطف کی تعداد کتنی ہے؟

### 3- مختصر جواب والا سوال:

حروف شرط کتنے جملے پر مشتمل ہوتا ہے اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟

### 4- طویل جواب والا سوال:

مَن اور ما کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو مثالوں سے واضح کریں